

83590- تنخواہ حاصل کرنے والے ٹیلی فون کے ملازم کو انعام و اکرام دینا

سوال

کام کرنے سے فارغ ہونے والے کو انعام و اکرام دینے کا حکم کیا ہے مثلاً ٹیلی فون کا ملازم ٹیلی فون صحیح کر لے تو کیا میرے لیے اسے بطور انعام کچھ دوں یا نہ، یہ علم میں رہے کہ وہ مقرر کردہ تنخواہ لیتا ہے؟

پسندیدہ جواب

جو ملازم تنخواہ لیتا ہو آپ کے لیے جائز نہیں کہ اسے اس کے کام کی بنا پر کوئی ہدیہ یا انعام دیں، اس کی دلیل بخاری اور مسلم شریف کی درج ذیل حدیث ہے:

امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ:

"نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص جس کا نام ابن اللہبیہ تھا کو زکاۃ اٹھی کرنے کے لیے بھیجا، جب وہ زکاۃ اٹھی کر کے لایا تو کہنے لگا: یہ تمہارا ہے، اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا:

"اس اہلکار کی حالت کیا ہے جسے ہم کسی کام کے لیے روانہ کرتے ہیں تو وہ آکر کہتا ہے: یہ آپ کا ہے، اور یہ میرا، تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی کیوں نہ بیٹھا رہا اور انتظار کرے کہ آیا اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں؟

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ جو کچھ بھی لانے کا روز قیامت اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا، اگر وہ اونٹ ہے تو آواز نکال رہا ہوگا، یا گائے ہوگی تو وہ بھائیں بھائیں کر رہی ہوگی، یا پھر بخری ہوگی تو وہ میاں رہی ہوگی"

پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے تو ہم نے آپ کی بنگلوں کی سفیدی دیکھی، اور فرمایا: خبردار رہو، میں نے پہنچا دیا ہے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (7174) صحیح مسلم حدیث نمبر (1832).

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

"اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ملازمین کو ہدیہ دینا حرام ہے، اسی لیے حدیث میں اس کی سزا اور جو چیز اسے ہدیہ دی گئی ہو وہ روز قیامت اٹھا کر لائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں ملازم کے لیے ہدیہ کی حرمت کا سبب بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری کی بنا پر ہے، غیر ملازم کے ہدیہ کے بخلاف کیونکہ وہ مستحب ہے اور ملازم وغیرہ جو ہدیہ کے نام سے لیتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ یا تو ہدیہ دینے والے کو واپس کرے، اور اگر ایسا کرنا مشکل ہو تو پھر وہ بیت المال میں جمع کر لیا جائیگا"

دیکھیں: شرح مسلم للنووی (462/6).

اور عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جس شخص کو بھی ہم نے کسی کام پر لگایا اور اسے ہم نے اس پر مال بھی دیا تو اس کے بعد وہ جو کچھ لے گا وہ خیانت ہوگی"

حدیث کا معنی یہ ہے کہ :

جس شخص کو بھی ہم نے کسی کام پر مقرر کیا اور اسے اس کام کی اجرت میں مال بھی دیا، تو اس کے بعد اس شخص کے لیے کوئی چیز یعنی حلال نہیں، اور اگر وہ لیتا ہے تو وہ خیانت ہوگی، اور غلول مال غنیمت اور مسلمانوں کے بیت المال میں خیانت کو کہا جاتا ہے۔

سنن ابوداؤد حدیث (2943) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابوداؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

ان دونوں حدیثوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ جو شخص ملازم ہو اور اپنے محکمہ اور ادارہ سے تنخواہ وصول کرتا ہو، اس کے لیے اپنے کام کی بنا پر کسی اور سے مال یا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ مال غنیمت میں خیانت جیسے کام کا مرتکب ہوگا۔

شیخ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ سے درج ذیل سوال کیا گیا :

ہم سرکاری ملازم ہیں اور رمضان المبارک میں سرکاری افسران کی جانب سے زکاۃ اور انعام و اکرام آتا ہے، اور ہم زکاۃ اور انعام و اکرام کو علیحدہ اور فرق نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، سوال یہ ہے کہ :

اگر ہم یہ مال لیتے ہیں حالانکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں اس سے مستغنی ہیں، یہ مال لے کر ہم یواؤوں اور یتیموں اور فقراء پر خرچ کر دیں تو اس کا حکم کیا ہوگا، اور اگر اس میں سے کچھ ہم نے خود اور اپنے اہل و عیال کو کھلادیا تو کیا حکم ہوگا؟

شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا :

"ملازمین کے ہدیہ جات غلول یعنی مال غنیمت اور بیت المال میں خیانت شمار ہوتے ہیں، یعنی جب سرکاری ملازم ہو اور اسے وہ شخص ہدیہ دے جس کا اس معاملہ کے ساتھ تعلق ہے تو یہ خیانت میں سے ہے، اور اس کے لیے اس سے کوئی چیز یعنی جائز نہیں، چاہے وہ راضی و خوشی دے رہا ہو۔

اس کی مثال یہ ہے کہ : ہم فرض کریں کہ آپ کا کسی محکمہ میں کوئی کام تھا اور آپ نے اس محکمہ کے افسر اور مدیر یا کسی ملازم کو ہدیہ دیا تو اس کے لیے یہ ہدیہ قبول کرنا حرام ہے؛ کیونکہ حدیث میں ہے :

"نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اللہبیہ کو زکاۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا، جب وہ زکاۃ اکٹھی کر کے لایا تو کہنے لگا : یہ تمہارا ہے، اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا :

"تم میں سے اس شخص کی حالت کیا ہے جسے ہم کسی کام کے لیے روانہ کرتے ہیں تو وہ آکر کہتا ہے : یہ آپ کا ہے، اور یہ میرا، تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی کیوں نہ بیٹھا رہا اور انتظار کرے کہ آیا اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں؟

تو کسی بھی سرکاری محکمہ کے کسی ملازم کے لیے اپنے اس معاملہ میں جو اس محکمہ کے متعلق ہو کوئی بھی ہدیہ قبول کرنا حلال نہیں، اگر ہم یہ دروازہ کھول دیں اور یہ کہیں کہ : ملازم کے لیے ہدیہ قبول کرنا جائز ہے تو ہم رشوت کا دروازہ کھول دیں گے، اور رشوت کا معاملہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتی ہے۔

اس لیے سرکاری ملازمین پر واجب ہوتا ہے کہ اگر انہیں ہدیہ یا صدقہ یا زکاۃ کے نام سے کچھ دیا جائے تو وہ قبول نہ کریں، اور خاص کر جب وہ غنی اور مالدار ہوں، کیونکہ جیسا کہ معلوم ہے کہ اس حالت میں تو ان کے لیے زکاۃ حلال ہی نہیں ہے "

دیکھیں: فتاویٰ الشیخ ابن عثیمین (18) سوال نمبر (270).

واللہ اعلم.